

جسمانی ورزش کرنا کیوں ضروری ہے؟

جسمانی ورزش ایڈز کے مريضوں کے علاج کے سلسلے میں بہت معاون ہوتی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں اور ان کا اندر ورنی دفائی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جسمانی ورزش ایڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاہم آپ کو بہتر محسوس کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے علاوہ ایڈز اور انسد ایڈز کی دواوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر نقصانات (سائڈ ایفیکٹس) کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔

ورزش کرنے کے فوائد

باقاعدگی کے ساتھ محتاط ورزش ایڈز کے مريضوں کو وہی فوائد مہیا کرتی ہے جو کہ عام لوگوں کی اکثریت کو حاصل ہوتے ہیں۔ جسمانی ورزش جسم کو طاقت و رواور مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ اس سے خون کے اندر کے نقصانات (یعنی شوگر، کولیسٹرول وغیرہ) کو کھڑوں کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جو کہ ستی (کامی) یا ایڈز کے وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

بہترین جسمانی ورزش

- ورزش کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس دوران باقاعدگی سے پانی بینا اور دیگر مشروبات کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔
- بہت زیادہ سخت ورزش نہ کریں، کیونکہ یہ جسم کو کمزور اور لا غر کر سکتی ہے۔ اس کی خطرناک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایڈز کا وائرس سے متعلقہ امراض مزید بڑھیں۔
- ورزش کے دوران زخموں سے بچاؤ کے لیے بہترین حکمت عملی استعمال کریں، کیونکہ زخم ہونے کی صورت میں یہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔
- ورزش انسان کو خوبی نالیوں کے امراض سے بچاتی ہے تاہم اس کے باوجود اس سے ممکنہ نقصانات کے بارے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہے۔

کچھ نمونے

ایک بہترین منصوبہ بندی کی حامل ورزش آپ کے جسم کو خوراک کے ذریعے مسلز (پٹھے) بنانے میں مدد کرتی ہے۔ کھانا آرام سے کھائیں اور ورزش کو اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ زیادہ سخت کام مت کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ورزش کے فوائد میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔

ورزش کی منصوبہ بندی کرتے وقت کم از کم 20 منٹ دورانیہ پر مشتمل ورزش کاشیڈول تشکیل دیں اور جس کو ایک ہفتہ میں کم از کم 3 مرتبہ دہرائیں (بشرطیکہ آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہو)۔ اس سے آپ کی جسمانی حالت کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے جیسے جیسے آپ کا زور اور طاقت بڑھتی جائے ایسے ہی اس دورانیہ کو بڑھاتے جائیں، آغاز میں 45 منٹ کریں کچھ دن بعد 1 گھنٹہ اور اسی دنوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتے چلیں جائیں، شروع میں ہفتے کے اندر 3 دن کریں اور پھر 4 دن۔

ہمیشہ اس حالت میں ورزش شروع کریں جب آپ اپنے آپ کو اس بارے تیار محسوس کریں۔ اس سے ایڈز کے آثار کے اظہار میں تاخیر میں مدد ملتی ہے۔ اپنی ورزش کو تحرک دینے کے لیے اپنی روٹین تبدیل کرتے جائیں۔ اپنے ورزش کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو اس بارے راغب کرنے کے نئے نئے طریقے تلاش کریں۔ ایک ایسا دوست بھی تلاش کریں جو آپ کے ساتھ ورزش کرے۔

جسم کو اندر وہی زخموں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ورزش کے منصوبے کو آگے بڑھاتے جائیں، 10 منٹ کے دورانیہ سے آغاز کرتے ہوئے اس کو 1 گھنٹہ تک لے جائیں۔

اچھے طریقے سے کھانا اور پینا

ورزش کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ مناسب مقدار میں پانی پیا جائے۔ یاد رہے کہ چائے، کافی، چکنائی والے مشروب، چاکلیٹ اور الکوھول کا استعمال آپ کے جسم سے پانی کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔

ورزش کے دوران کھانے سے بھی پر ہیز کریں۔ بلکہ کھانے اور ورزش کے آغاز میں 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ورزش کے بعد بھی 1 گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیں۔ ایک سیب یا جام کے ساتھ ڈبل روٹی آپ کو ضروری طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی خوراک بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ممکن ہے کہ جسمانی ورزش کے اضافے کی وجہ سے جسم کو کلوئے زیکی زیادہ ضرورت پڑے اور اس طرح وزن کم ہونے کے خدشے سے بھی بچا جاسکے۔

ورزش کا انتخاب

سب سے پہلے اپنی پسندیدہ ترین سرگرمی سے ورزش کا آغاز کریں، چاہے وہ یوگا کرنا، دوڑنا یا سائکل چلانا وغیرہ ہوں۔ اپنی پسندیدہ سرگرمی کا انتخاب آپ کو ورزش کے منصوبہ کو جاری رکھنے میں معان ثابت ہو گا۔ اپنی روٹین کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اس دوران بھی دل چسپ عمل ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی ورزشوں کا انتخاب کریں۔ (جیسے پہلی قسم میں Cardiovascular یا ہواباashi aeróbico کی ورزش اور دوسرا قسم میں غیر ہواباashi کی ورزش جن میں وزن اٹھانے اور طاقت کے استعمال کی ورزش بھی شامل ہے اس کو anaeróbico بھی کہتے ہیں۔)

ہواباashi کی ورزش aeróbico

یہ انسولين کے اثرات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خون میں رونگینیات کو بہتر بناتی ہے اور دل سے متعلقہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز سے متعلقہ دیرینہ سوزش سے بھی بچاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی لچسپ و فائدہ مند ہے جن کو مختلف ورزشوں سے چہرے یا دیگر عضائے جسمانی کے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کی ورزش انسان میں چربی کو کم نہیں کرتی۔

ناہواباashi ورزش anaeróbico

یہ مسلز (پھلوں) اور انسولين کے اثرات کو بہتر کرتی ہے اور جلد کے نیچے موجود چربی کو کم کرنے میں معلم ثابت ہوتی ہے۔ (خصوصی طور پر جسم کے اندر وہی حصوں میں موجود چربی والے مراپنوں کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے، جس کو lipohipertrofia کے نام سے بھی جانا جاتا ہے)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR